


FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No. - 256/2023


S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	31/1/2023	<p>The appeal of Mr. Wali Ullah resubmitted today by Mr. Saadullah Khan Marwat Advocate. It is fixed for preliminary hearing before Single Bench at Peshawar on _____. Parcha Peshi is given to appellant/counsel.</p> <p>By the order of Chairman</p> <p> REGISTRAR</p>

The appeal of Mr. Wali Ullah son of Muhammad Khan Driver Constable no. 568 Police Station Town ship Bannu received today i.e. on 25.01.2023 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellant for completion and resubmission within 15 days.

- 1- Check list is not attached with the appeal
- 2- Appeal has not been flagged/marked with annexures marks.
- 3- Affidavit may be got attested by the Oath Commissioner.
- 4- Annexures of the appeal be attested.
- 5- Annexures of the appeal are not in sequence which may be annexed serial wise as mentioned in the memo of appeal.
- 6 Pages nos. 11 to 14, 17, 21 & 22 of the appeal are illegible which may be replaced by legible/better one.
- 7- Wakalat nama in favour of appellant be placed on file.
- 8- Four more copies/sets of the appeal along with annexures i.e. complete in all respect may also be submitted with the appeal.

No. 367 /S.T.


Dt. 26-01 /2023


REGISTRAR
SERVICE TRIBUNAL
KHYBER PAKHTUNKHWA
PESHAWAR.

Mr. Saadullah Khan Marwat Adv.
High Court at Peshawar.

Sir,

Re-submitted after removing
the objections.



BEFORE THE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

S.A. No. 256 /2023

Wali Ullah


versus

RPO & Others

I N D E X

S. No	Documents	Annex	P. No.
1.	Memo of Appeal		1-6
2.	FIR dated 03-10-2021	"A"	7-8
3.	Show Cause Notice dated 13-10-2021	"B"	9
4.	Reply to Show Cause Notice, 14-10-21	"C"	10
5.	Enquiry report	"D"	11-14
6.	Final Show Cause Notice, 11-11-21	"E"	15
7.	Reply to FSCN dated 12-11-2021	"F"	16
8.	Dismissal order dated 18-05-2022	"G"	17
9.	Reinstatement of co-employee dated 18-05-2022	"H"	18
10.	Representation dated 23-05-2022	"I"	19
11.	Observation on appeal dated 20-06-22	"J"	20
12.	Enquiry report dated 29-07-2022	"K"	21-22
13.	Service Appeal No. 1431/22	"L"	23-26
14.	Reinstatement order dated 30-12-2022	"M"	27-28
15.	Withdrawal order dated 12-01-2023	"N"	29

Appellant
Through


Saadullah Khan Marwat
Advocate
21-A, Nasir Mansion,
Shoba Bazaar, Peshawar
Ph: 0311-9266609

Dated: 25-01-2023

BEFORE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

S.A No. 256 /2023

Wali Ullah S/O Muhammad Khan,
R/o Nawar Khel; Lakki Marwat,
Driver Constable No. 568,
Police Station Township,
Bannu Appellant

Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Case No. 3168

Dated 25-1-2023

Versus

1. Regional Police Officer,
Bannu Region, Bannu.
2. District Police Officer,
Lakki Marwat Respondents

⊕<=>⊕<=>⊕<=>⊕<=>⊕

APPEAL U/S 4 OF SERVICE TRIBUNAL ACT, 1974
AGAINST OB NO. 384, DATED 30-12-2022 OF R.
NO. 01, WHEREBY APPELLANT WAS
REINSTATED INTO SERVICE WITH IMMEDIATE
EFFECT AND PERIOD OF DISMISSAL / OUT OF
DUTY WAS TREATED AS LEAVE WITHOUT PAY:

⊕<=>⊕<=>⊕<=>⊕<=>⊕

Respectfully Sheweth;

1. That appellant was appointed as Driver Constable on 30-05-2007 and served the department to the best of his ability and to the entire satisfaction of the superiors.
2. That on 03-10-2021, FIR No. 1327, Police Station Lakki Marwat u/s 302/34 PPC was registered against PASI, Naveed Nawaz for murder of Aleemn Shah. (Copy as annex "A")

Filed for - 25/1/23
Registered - 25/1/23

3. That on 13-10-2021, appellant was served with Show Cause Notice on the allegation that:-
 - i. That on the event of full day you followed Naveed Nawaz to the crime scene and now you are hiding facts which shows your connivance with the accused.
 - ii. That all speaks gross misconduct on his part and liable to be punished under Police Rule 1975. (Copy as annex "B")
4. That on 14-10-2021, appellant replied to the Show Cause Notice and denied the allegations. (Copy as annex "C")
5. That enquiry into the matter was initiated against appellant but the same was not conducted as per the mandate of law because no statement of any witness(s) was recorded in presence of appellant nor he was afforded opportunity of cross examination what to speak of self defense. No punishment for imposition upon him was suggested what to speak of major punishment of dismissal from service. (Copy as annex "D")
6. That on 11-11-2021, appellant was served with Final Show Cause Notice, without supply of enquiry proceeding to appellant which was also replied on 12-11-2021 and denied the allegation. (Copy as annex "E" & "F")
7. That on 18-05-2022, major punishment of dismissal from service was imposed upon appellant without taking into consideration the facts and circumstances of the case by R. No. 02. (Copy as annex "G")
8. That on 18-05-2022, Co-Employee, Fahim Ullah having same role and conduct in the matter was exonerated from the charges, despite the fact that he was equally held responsible in the matter was given minor punishment of stoppage of increment. (Copy as annex "H")
9. That on 23-05-2022, appellant submitted representation before R. No. 01 for reinstatement in service with all back benefits which met dead response till date. (Copy as annex "I")

10. That on the departmental appeal, R. No. 01 passed order for re-enquiry in the criminal case with remarks:-

"Please re-enquire into it and find the actual role of the officers in incident vide letter dated 20-06-2022". (Copy as annex "J")

11. That on 29-07-2022, Additional Superintendent of Police Bannu held re-enquiry into the matter whereby in the recommendations it was held in categorical manner that all the 06 police officials are recommended for exoneration from the charges leveled against them. (Copy as annex "K")

12. That on maturity of the case, appellant filed S. A. No. 1431/22 before the hon'ble Tribunal which was admitted to regular hearing and notice of the same was issued to respondents for reply. (Copy as annex "L")

13. That in the meanwhile, re-enquiry was conducted into the matter and the appeals already submitted before the authority was accepted and they were reinstated into service with immediate effect and period of dismissal / out of duty was treated as leave without pay vide order dated 30-12-2022. (Copy as annex "M")

14. That in the meanwhile, the aforesaid appeal before the hon'ble Tribunal came up for hearing on 12-01-2023 and then in the light of the fresh recommendation dated 30-12-2022 was withdrawn with permission to file a fresh one. (Copy as annex "N")

Hence this appeal, Inter Alia, on the following grounds;

GROUND S

- a. That from the FIR dated 03-10-2022, it is very much clear that Naveed Nawaz apprehended one Almeen Shah with pistol and arrested him at the spot. One Johar Muhammad son of Dilawar Shah posing himself to be the leader of PTI of the locality, made hot words with the said PASI for arresting the said culprits.
- b. That the said deceased whirled message on Face book ID against the said PASI that he is harassing handsome people. The said PASI went to village Dalo Khel and killed the said Almeen Shah at the same time, appellant was at police post, Lakki Marwat.

- c. That appellant never facilitated the said PASI in the commission of offence and it was his own act, if any.
- d. That charges leveled against appellant has no nexus with the same as he never facilitated the said matter.
- e. That the matter was not dealt with as per the mandate of law because neither any statement of any witness(s) was recorded in presence of appellant nor he was afforded opportunity of cross-examination.
- f. That appellant was unaware as to whether the said PASI is going for checking to Hospital or for going to other purpose.
- g. That enquiry conducted in the matter but no punishment was ever suggested by the Inquiry Officer to impose the same upon appellant, what to speak of major punishment of dismissal from service.
- h. That the authorities never dealt with the matter as per the record and circumstances and for no obvious reason, appellant was implicated in the same.
- i. That in similar circumstances, constable Fahim Ullah was exonerated from the charges by R. No 02 at the recommendation of Political vendetta and appellant was awarded with major punishment of dismissal from service.
- j. That on representation of appellant fresh enquiry was conducted and in the recommendation the enquiry officer held in the enquiry report and recommended for exoneration from the charges leveled against them. In the circumstances, no punishment was required under the law.
- k. That though R. No. 01 issued the impugned order whereby the appeals of the officials were accepted, they were reinstated into their services with immediate effect and period of dismissal / out of duty was treated as leave without pay.

- i. That when appellant was reinstated into service in pursuance of re-enquiry report dated 29-07-2022 then no legal justification ever exists to be not reinstated appellant into service with all back benefits even double punishments were imposed, i.e. reinstated into service with immediate effect instead of from the date of dismissal from service and period of dismissal / out of duty was treated as leave without pay.
- m. That appellant never absented from duty but it was the illegal order of respondents where he was kept away from duty.
- n. That after exoneration from the so called criminal charges, no stigma ever exists and the impugned order is not only illegal but is based on malafide and discrimination as one Faheem Ullah Constable was not treated at par with appellant.

It is, therefore, most humbly prayed that on acceptance of the appeal, order dated 30-12-2022 of the R. No. 01 be set aside to the extent of double punishments i.e. reinstatement in service with immediate effect and period of dismissal / out of duty was treated as leave without pay.

wali

Appellant

Through

3 Saadullah Khan

Saadullah Khan Marwat

Arbab Saiful Kamal

Arbab Saiful Kamal

Anjad Nawaz

Anjad Nawaz

Advocates

Dated: 25-01-2023

AFFIDAVIT

I, Wali Ullah S/O Muhammad Khan, Driver Constable No. 568 Police Station Township Bannu (Appellant), do hereby solemnly affirm and declare that contents of **Service Appeal** are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Wali

DEPONENT

CERTIFICATE:

As per instructions of my client, Service Appeal No. 1431/22 has earlier been filed by the appellant before this Hon'ble Tribunal which was later on withdrawn to file a fresh one.

3 *Wali Ullah Khan*

ADVOCATE

A

7

ابتدائی اطلاع رپورٹ

28-10-21

ابتدائی اطلاع نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ 153 مجموعہ ضابطہ نو جداری

ضلع لکھنوت

تھانہ کئی

تاریخ وقت وقوعہ 03.10.21 وقت 12.20 بجے

نمبر 1329

1-	تاریخ و وقت رپورٹ	03.10.21 وقت 12.50 بجے چاکیری
		03.10.21 وقت 13.50 بجے
2-	نام سکونت اطلاع دہندہ مستخفیث	حنیف شاہ ولد عالمین شاہ سکنہ ابا خیل بھر 31/32 سال
3-	مختصر کیفیت جرم (معدومہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو۔	PPC 302/34
4-	جائے وقوعہ فاصلہ تھانہ سے اور سمت	بیشک ازان محمد نور محمد خان واقعہ داخل جانب غرب جنوب 8/9 کلومیٹر از تھانہ
5-	نام سکونت ملزم	انویڈ نواز ۲۰ عمر گل عرف مرگ پسران گل نواز سکنہ ولد داخل
6-	کارروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع کرنے میں توقف ہو تو وجہ بیان کرہ	برسیدگی مراسلہ پر چہ گزارش رپورٹ چاک کیا گیا
7-	تھانہ سے روانگی کی تاریخ و وقت	بمزلہ اسپیشل لیجر

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو۔ ایک تحریری مراسلہ رپورٹ منجانب نور اسلم خان ASHO بغرض تاگی مقدمہ بدست ایشیل عالمگیر 603 موصول ہو کر ذیل ہے۔ رپورٹ حنیف شاہ ولد عالمین شاہ سکنہ ابا خیل بھر 31/32 سال CNIC نمبر 5-112015337131 رابطہ نمبر 3008306607 آج مورخہ 03.10.21 بوقت 12.50 بجے بمقام سٹی ہسپتال کئی مرمت موجودگی بخش والد اش عالمین شاہ بھر 51/52 سال یوں رپورٹ کرتا ہے کہ امروز میں والد ام ہارون ارشد ولد گل بادشاہ سکنہ ابا خیل جو ہر محمد کے بیٹے گئے جو ہر محمد خان کا انتظار کر رہے ہے والد ام عالمین شاہ علیحدہ چار پائی پر بیشک کے برآمدے میں بیٹھا تھا جبکہ سائیڈ پر دوسری چار پائی پر میں اور ہارون الرشید بیٹھے تھے۔ بوقت تریب 12.20 بیشک کے چھوٹے دروازہ سے انویڈ نواز جو کہ پولیس کی وردی میں ملبوس تھا جبکہ اس کا بھائی عمر گل عرف مرگ پسران گل نواز ساکنانہ داخل اندر بیشک آئے دونوں کے پاس کلا شکوفہ ہائے تھے انویڈ نواز نے فوراً اپنے کلا شکوفہ سے والد ام پر نائزنگ شروع کی جس سے وہ لگ کر چار پائی پر گر پڑا جبکہ عمر گل نے انویڈ نواز کے نائزنگ کے دوران ہم پر اپنی کلا شکوفہ ایم کے رکھا بعد وقوعہ ملزمان بیشک سے نکل گئے اور ہم بوجہ خالی ہاتھ کچھ نہ کر سکے۔ اسکے فوراً بعد جو ہر محمد خان ولد دلاور خان سکنہ دلو خیل اپنے گھر سے بیشک کی طرف نکل آیا اور ہم نے والد ام کو سنبھال کر جو ہر محمد خان کے گاڑی میں ڈال کر سیدھا سٹی ہسپتال کئی لے آئے۔ مگر والد ام زخموں کی تاب نہ لا کر راستہ میں جان بحق ہوا تھا۔ وجہ عداوت یہ ہے کہ والد ام نے اپنے فیسبک پر امر دوز دوسے سے کچھ دیر قبل ملزم انویڈ نواز کے خلاف بخور دلو کوں کو تنگ کرنے اور بلیک میل کرنے کا پوسٹ چلا تا تھا۔ جس پر وقوعہ ہذا رونما ہوا ہے۔ وقوعہ ہذا میرے علاوہ رشتہ دار ام ہارون الرشید ولد گل بادشاہ سکنہ دیہہ آم کے پچشم خورد دیکھا۔ میں والد ام کے قتل کرنے کا برخلاف انویڈ نواز اسلحہ ایم کرنے، غرض مشترکہ ارادہ قتل کرنے کا برخلاف ملزم عمر گل عرف میر کی کی دعوی دار ہوں۔ العبد مستظاہر بڑی مدگی کارروائی پولیس حسب آمدہ اطلاع سٹی ہسپتال مردان آ کر مدگی بالا کی رپورٹ ضبط تحریر میں لاکر پڑھ کر سنایا سمجھایا گیا۔ درست

Atika

تسليم کر کے زیر رپورٹ اپنا دستخط ثبت کیا۔ جس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ مقتول کا نقشہ ضرر فرد صورت حال مرتب کر کے بشرط
 پوسٹ مارٹم زیر حفاظت کنسٹیبل نجیب امیر 160 حوالہ ڈاکٹر صاحب کیا جاتا ہے۔ بخمون رپورٹ سے صورت جرم PPC
 302/34 کی پائی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ نوید نواز IPAS انچارج چوکی سٹی تعینات ہے۔ مراسلہ بغرض قائمی مقدمہ بدست
 کنسٹیبل عالیگیر 603 ارسال تھا ان ہے۔ KBI سٹاف سے تفتیش کیجیادے۔ دستخط انگریزی نور اسلم خان ASHO تھا ان کی
 مورخہ 03.10.2021 کا ردوائی تھا انہیں آمدہ مراسلہ حرف بحرف درج بالا ہو کر پرچہ مجرم بالا بمنزلہ اسپیشل رپورٹ چاک ہو
 کر نقول FIR ہر اذ تفتیش حوالہ انچارج KBI سٹاف کی کے جاتا ہیں۔ پرچہ بمنزلہ اسپیشل رپورٹ گزارش ہے۔

ASI PS LM 03.10.021'

Atul


3 9 Better

OFFICE OF THE DISTRICT POLICE OFFICER LAKKI MARWAT

No. 6585/SRC.

Date: 13-10-2021

SHOW CAUSE NOTICE UNDER POLICE RULES 1975.

WHEREAS; you Driver Constable Wali Ullah No. 563 while posted at PP City Lakki were found Indulge In the following allegations:-

1. That on the event of full day you followed Naveed Nawaz to the crime scene and now you hiding facts which show your connivance with the accused.
2. That all speaks gross misconduct on his part and liable to be punished under Police Rules-1975.

You are therefore, found guilty of misconduct, as the defined in section 2 (III) of KPK Police Rules-1975 and as such are liable to action under section 2 of the said rules.

Based on the above facts, I am satisfied that no enquiry is needed in this case as contained in section 5.3 clauses (a) & (c) under the said rules.

Now, therefore, you Driver Constable Wali Ullah No. 568 are called upon under section 4.1 of the KPK Police Rules 1975, to show cause within 07 days of the issuance of this notice, as to why one or more penalties including major penalty of dismissal from service should not be imposed upon you.

NOTE:-

Take notice that if you failed to submit reply in compliance of this show cause notice within the stipulated time, it will be presumed that you have acting to offer in your defense and in that case, an expert action shall straightaway to taken against you without any further notice.

Sd/-

District Police Officer
Lakki Marwat

Amir

B 9

ALL OTHERS Charge Sheet Order 2-1975 Sec 144 Cr.P.C.

OFFICE OF THE DISTRICT POLICE OFFICER, LAKKI MARWAT.

No. 6585/SRC

Date 19/10/2021

SHOW CAUSE NOTICE UNDER POLICE RULES 1975.

WHEREAS, you Driver Constable Wall Ullah No. 568 while posted at City Lakki were found indulge in the following allegations:-

1. That on the event of full day you followed Navced Nawaz to the crime scene and now you hiding facts which show your connivance with the accused.
2. That all speaks gross misconduct on his part and liable to be punished under Police Rule-1975.

You are therefore, found guilty of misconduct, as the defined in section 2 (III) of KPK Police Rules 1975 and as such are liable to actio under section 5 of the said Rules.

Based on the above facts, I am satisfied that no enquiry is needed in this case as contained in section 5.3 clauses (a) & (c) under the said Rules.

Now, therefore, you Driver Constable Wall Ullah No. 568 are called upon under section 4 (1) of the KPK Police Rules 1975, to show cause within 07 days of the issuance of this notice, as to why one or more penalties including major penalty of dismissal from service should not be imposed upon you.

NOTE:-

Take notice that if you failed to submit reply in compliance of this show cause notice within the stipulated time, it will be presumed that you have nothing to offer in your defense and in that case, an expert action shall straightaway be taken against you without any further notice.

District Police Officer,
Lakki Marwat

Handwritten signature

C 150

خدمت جناب بحوالہ بشمولہ شوکاژ نوٹس نمبری 6585/SRC
تاریخ 13.10.2021 جناب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب
ضلع کی مزوت معروض ہوں کہ افسران بالانے مجھ سے الزامات مندرجہ شوکاژ نوٹس کے بابت وضاحت طلب
کی ہے۔

جو اب معروض ہوں۔ کہ پچھلے 7، 8 مہینوں سے چونکہ سٹی میں تعینات رہا ہوں اور بطور ڈرائیور سرکاری گاڑی ڈیوٹی
سراجام رہی کرتا رہا۔ انہی پیریڈ کے دوران کبھی ابھی افسران بالا کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ مورخہ 3/10/2021
کو میں صبح 06:10 بجے 11:50 بجے تک سوبانگ گشت ڈیوٹی ہمراہ انور کمال IHC ڈیوٹی کی ہے۔ اور 12:00 بجے
سے رات تک ہمراہ ہاشم خان IHC چونکہ سٹی کے ساتھ گشت پر تھا۔ جن کے بابت رڈ اوگلی / داہنی کے نقل بدات
ہمراہ لف ہے چونکہ سٹی میں ایام تعیناتی کے دوران میں SI سٹی کے ماتحت افسران یعنی IHC کے زیر نگرانی گشت ڈیوٹی
کر کے آیا ہوں۔ رہی بات نوید نواز ASI کی جرم کو چھپانے اور جرم کرنے تک تعاقب کا امر اڑبارے سوچ بھی نہیں
سکتا۔ اور نہ میری اتنی حیثیت ہے۔ حالی جاہ بشمولہ ریکارڈ بابت ڈیوٹی بروز قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناکر وہ جرم کی رو
سے سائل کا شوکاژ نوٹس بالا مزید کارروائی کا داخل دفتر فرمائی جائے۔

عین نوازش ہوگی۔

مورخہ: 14-10-2021

الحاضر

سائل معطل کا نمبر 568 ولی اللہ 568 متعینہ پولیس لائن کی مروت

(Handwritten signature)

جناب عالی!

انکوائری ہڈاے حالات ففصل کولہ ہے کہ قومی مقدمہ

حزینہ شاہ ولد عالمین شاہ کی موت میں مقدمہ ہذا برخلاف
 ڈیڑھ گواہ پاسی ایچارج چوٹی کی موت، برادر اشہ عمر گل آندا
 دلکو خیل دج جٹھو سر قند سے حالات مختصر کولہ ہے کہ قومی مقدمہ
 بمقام سٹی ہسپتال کی موت واکد اش عالمین شاہ کے قتل نگرہ کی
 رپورٹ بریلاف کلنرمان بالاکر کے کہ اسروز وہ، واکد اش، ہارون الرشید
 جوہر محمد سے ہسپتال میں جو میر محمد کا انتظار کر رہے تھے۔ واکد اش
 برآمد سے میں چاریائی میر بیٹھا تھا۔ جبکہ سائڈ پیر دوسری چاریائی پیر
 وہ (مدعی) اور ہارون الرشید بیٹھے تھے۔ بوقت قریب 2:50 بجے ہسپتال سے
 تھوڑے دروازے سے ڈیڑھ گواہ جوہر لیکسی وردی میں ملیوں کا جس کا
 جانی عمر گل آندا دلکو خیل اندر سیکھ آئے۔ دلوئی سے پاس کلاشلوفا
 ہائے تھے۔ ڈیڑھ گواہ نے فوراً اپنے کلاشلوفا سے واکد اش عالمین شاہ
 پر ناٹنگ شروع کی جس سے وہ بگ سر چاریائی پیر پیر پیرا۔ جبکہ
 عمر گل نے ڈیڑھ گواہ سے ناٹنگ کے دوران ان پر کلاشلوفا اچھلے
 رکھا۔ بعد از وقوعہ کلنرمان ہسپتال سے نکل گئے اور بوجہ خالی یا تھوڑے
 وہ (مدعی) پھر نہ سرکا۔ اس سے بعد جوہر محمد وکدلاور خان اپنے گھر
 سے ہسپتال کی طرف نکل آیا۔ اور واکد اش ہمال کرے جوہر محمد کی گاڑی میں
 ڈاک سرٹجیا ہسپتال کی آئے۔ جبکہ واکد اش زخموں کی تاب نہ لا کر
 راستہ میں جا چکی ہوا۔ وجہ علوت یہ ہے کہ مقبول نے فیس آئی ڈی
 پیر وقوعہ سے پھوڑ پیر قبل کلنر ڈیڑھ گواہ سے خلاف خویر لکھوئی کو تنگ
 کرنے اور بلیک میل کرنے کا پوسٹ چلا پاتا تھا جس پر وقوعہ ہفا رونما ہوا۔
 وقوعہ جوہر رشید داراش ہارون الرشید کا چشم دیر نیلا با۔ ۵۶۵

(Handwritten signature)

تعمیراتی اس رپورٹ پر مقدمہ عدالت 1329 قورنہ 21/10/3 جی جی آر 34/35 PPC
 تھانہ کی درجہ چتر ہو کر تفتیشی شروع ہوئی مقدمہ جی جی آر 34/35
 جی جی آر 34/35 جی جی آر 34/35 جی جی آر 34/35 جی جی آر 34/35
 قورنہ 21/10/05 ، فیصلہ اللہ فیصل 25/10/05 جی جی آر 34/35
 قورنہ 21/10/05 ، فیصلہ اللہ فیصل 25/10/05 جی جی آر 34/35
 میں قلمی ہے کو برقی سولٹ کیا ہے ۔ انکو اسرار پر دستخطی کو
 مارک ہو کر تفتیشی و تصدیقی کا خاطر بریلو و سیراویہ پیر انڈیا پری کو
 جاری کرتے ہوئے روزنامہ جی جی آر 34/35 جی جی آر 34/35
 21/10/03 کو ذریعہ پاسی کی گشت سے واپسی تحریر ہوئی ہے جبکہ جی جی آر
 مذکورہ روزنامہ 21/10/03 کو وقت 12:10 بجے کو جی جی آر 34/35
 سٹی روڈ کی تحریر شدہ پائی گئی جبکہ جی جی آر 34/35 روزنامہ 21/10/03
 کو وقت 14:00 بجے SHO جاوید خان تھانہ کی جانب سے غیر خافری
 رپورٹ تحریر ہوئی ہے ۔ جس میں SHO کی طرف سے تحریر ہوا ہے کہ
 نہ مقدمہ مثل متذکرہ میں جو کی خافری پائی تاکہ کو ذریعہ پاسی کی
 گرنٹاری عمل میں لائی جائے ۔ تاہم مذکورہ قلمی کو ذریعہ پاسی خافری
 کردیا گیا ہے ان مذکورہ جی جی آر کے بارے میں جی جی آر 34/35
 کا بریائی تحریر کیا گیا کہ سوالاں کے لئے ۔ کہ روزنامہ میں قلمی کو ذریعہ
 کو ذریعہ پاسی آرٹیکل اور یہی حال روائی کے اندراج 2 میں ہے قلم
 خود لکھے ہیں؟ جی جی آر کے جوابات کیا کہ کو ذریعہ پاسی کو (تحریریں)
 Dictation دی ہے اور روزنامہ میں اندراج تحریر (مذکورہ) لکھے
 ہیں ۔ مذکورہ تحریر کے سوالاں / جوابات تحریر ہوا طور پر لکھا گیا ہے ۔
 یہ بات جو ذمہ بریائی خافری ہے کہ کو ذریعہ پاسی پیرا 2 میں کار
 میں آگیا گیا ہے ۔ اور وہی سزا دیا گیا ہے جبکہ 2 میں ہے پیسے فریائل
 سرکاری ہیں لکھی گئی ہے ۔ جو کہ کھد میں واپسی آئی ہے جی جی آر
 مذکورہ پاسی ملے کے میں میں فیصلہ 187/05 ، ضیاء اللہ فیصل 187/05 اور فیصلہ 34/35
 کے لئے جاری ہے ہیں ۔ اور اس لکھی و تصدیقی کا خاطر جی جی آر 34/35
 جی جی آر 34/35 کے ہذا تحریر ہے ہیں ۔

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

دکھنیل پیمانے نامہ بندہ کی کے ایچارج محمد اسرار علی 241/14C کا بیان کیا گیا

جس کے اپنے بیان میں یہ کہہ سکتا ہے کہ قدرت اللہ، جیل خانہ 6663/FRP،
عارف خان 7619/FRP، ظہیر خان 7579/FRP بروز وقوعہ مورخہ 03/10/21 کو

دکھنیل پیمانے پر نامہ بندی پر موجود تھا کہ فزیر نواز PASS جوی سٹی
ایچارج برائٹھوٹ ٹوٹر کار میں آیا جو کہ ڈرائیونگ خود کر رہا تھا اور
اسیلا تھا پیمانے کو سرسائی کر کے دکھنیل کی طرف گیا جیسے عقبہ سرکاری
ٹو بائل گاڑی 8/10 میں بند آئی۔ یہ علم نہیں کہ سرکاری ٹو بائل میں لٹری
کو کون کون سے فزیر نواز سے پیچھے چلا گیا۔ جبکہ ایسی سرکاری
ٹو بائل دکھنیل پیمانے کی طرف نہیں آیا، مذکورہ ایچارج کے ہمراہ
دیگر لٹری موجود نہیں ہے کہ ان کا وہی بیان ہے جو کہ ایچارج

محمد اسرار علی کے دیا ہے۔ روزنامہ چوکی سٹی کی مزید پڑھناں ہو کر مذکورہ

فزیر نواز PASS نے بحوالہ مذکورہ روزنامہ 21-10-21 کو پوسٹ 05:00 بجے چوتھے
تھقل تھا پولیس لائن کی صورت راکٹی کی ہے۔ جس کی خاطر پولیس
لائن میں مطلوب تھی، مگر پولیس لائن میں اپنی خاطر کی اور لٹری کی ہے۔
اور مورخہ 06/10/21 کو پوسٹ 07:15 بجے لائن تاخیر کی ریکورڈ پر غیر حاضر
سر دیا گیا ہے، جو کہ بحال غیر حاضر ہے جیسے مورخہ 05/10/21 کو لٹری
اپریشن سٹیٹس جج ٹبر 4 کی صورت مقدمہ جڈا میں BBA کرٹی ہے جسی
میں تاریخ مورخہ 13/10/21 قمر ہے۔

میاں تک ریٹس HC کا تعلق ہے چارج شیٹ کے جواب میں اپنا روایتی

بیان تحریری طور پر پیش کیا ہے، جو کہ زیر دستگی سے ریڈر کے حوالہ

کیا ہوا ہے۔ تاہم مزید سوالات / جوابات کی خاطر باوجود طلبی کے حاضر

نہ آیا۔ تحریری جواب لف آنکوائری ہے

اسی طرح فیم انٹر 187 سے بھی چند سوالات کیے گئے جو کہ کلنگ

فزیر نواز PASS کے عقبہ بزرگہ سرکاری ٹو بائل جانے کی تردید کرنا ہے

کہ وہ فزیر نواز سے پیچھے سرکاری ٹو بائل میں نہیں دیا ہے بزرگہ وقوعہ

ٹو بائل سرکاری پڑا شوروی انٹر 568 کی ڈیوٹی تھی جس کا بیان دیا گیا

ASR

جیوہ ہائی بیس نہ ہرگز وقوع فوراً 3/10/21 کو اسی کی نو بائیل پر ڈیوٹی تھی
 مگر فوڈ لٹو از سے پیسے نیسی گیا ہے جبکہ وقوع سے روز میں آٹھ بجے چوٹی سٹی
 پرنسپل عبد الباری 245/۴۷ کی 10 سے 1400 بجے تک ڈیوٹی تھی جس
 کا بھی تحریری بیان لیا گیا ہے کہ فوڈ لٹو از سے پیسے سرکاری نو بائیل
 میں لٹری نیسی گئی ہے۔ ہر دو سے بیانات لفٹ انٹرویو لیا گیا ہے۔

تمام ایسے بیانات کی روشنی میں حالات دیوی پائی گئے کہ اصل میں فوڈ لٹو از PASS
 نے بمطابق روز ناپہ خرابی میں ہسپتال لٹی روائی کی بیس مڈ ٹینٹی افسر کی
 لٹینٹی اور تحقیقی سے مطابق مذکورہ ہسپتال میں انٹری نیسی کی ہے اور ہسپتال
 سے علاج کا ریکارڈ سامنے آ رہا ہے۔ مگر یہ نہ ہرگز وقوع چوٹی میں نہ ہا
 بزبان خامی و عا تھی کہ مذکورہ PASS ملنگ سے مقتول کا مریسی کب تک
 پوسٹ پڑھنے سے لہجہ بدلیا ہے ہر ایسٹ نوڈ کار فوق کی جانب روانہ ہوا ہے
 جس کو چوٹی میں موجود لٹری نے گرنے کی از حد کوششی تھی کی ہے اور کل
 پھاٹھا پر تانہ بندی لٹری کے مطابق فوڈ لٹو از PASS بذریعہ ہر ایسٹ
 فوڈ کار ڈکھو خیل کی طرف لیا ہے جبکہ اس سے پیسے نو بائیل سرکاری میں
 لٹری تھی یہ زبردستی اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ رفیق HC فہم خان

۱87/۴۷، ضیاء النرجس 832/۴۷ بذریعہ نو بائیل سرکاری فوڈ لٹو از PASS سے پیسے
 جا چکے ہیں، جبکہ ڈر کی وجہ سے یا کسی دیگر مہلک سے قتل یا کلنر مان
 کو فائدہ پہنچانے کی خاطر حالات و واقعات کو چھپانے کی کوشش
 سر سے پیسی، جبکہ ان کے ساتھ حقیقتاً کو چھپانے میں شمولیت 239/۲۸۷
 مریجوئی، ولی اللہ 568/۵۱۲ اور عبد الباری 245/۴۷ بھی شامل تصور کیے جاتے
 ہیں۔ ڈرائیور ولی اللہ 568 سے بیان کے مطابق کہ ہرگز وقوع اس کی
 نو بائیل سرکاری پر ڈیوٹی تھی۔ تاہم یہ بھی حقیقتاً ہے کہ وقوع میں

ان پولیس ملازمان نے براہ راست صحافی طور پر حصہ نیسی لیا ہے
 جبکہ سربراہ کے مطابق فوڈ لٹو از PASS نے بقلم خود ہسپتال روائی نیسی کی ہے
 جیوہ سوالیہ نشان ہے، لہذا حقیقتاً کو چھپانے کی یاداشتی میں تصور
 پائے جا سرائے خلاف ریگولر حکمانہ کاروائی کی سفارشی کی جاتی ہے



E 15

OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER
LAKKI MARWAT

No. 7493 /SRC

Dated 11/11/2021

FINAL SHOW CAUSE NOTICE


You Constable Wali Ullah No.568 while posted at PP City Lakki are guilty of acts of omission and commission as detailed below:-


"On the event of full day you followed Naveed Nawaz to the crime scene and now you hiding facts which show your connivance with the accused. Thus this speaks deviant and gross misconduct on your part.

2. Prior to this effect, you were issued Show Cause Notice to this effect. Your reply to the show cause notice was perused and was found un-plausible.

3. NOW THEREFORE, I, Shahzada Umar Abbas Babar PSP, District Police Officer Lakki Marwat call upon you through this Final Show Cause Notice within three (03) days of the receipt of this Final Show Notice that as to why you should not be awarded a major punishment including dismissal from Service as provided under KPK Police Rules, 1975. Also state whether you want to be heard in person.

4. In case your reply is not received within stipulated period without sufficient reasons, it shall be presumed that you have no defense to offer and the undersigned would be at liberty to pass on ex-parte action against you.


(Shahzada Umar Abbas Babar) PSP
District Police Officer
Lakki Marwat



F 16

جناب عالی! بحوالہ شمول شوکار نوٹس نمبری 7493/scr مورخہ 11-11-2021 جاریہ جناب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب سٹیٹس کی
مرمت معروض ہوں کہ سائل کو قبل ازیں اس سلسلہ میں شوکار نوٹس نمبری 6585/scr مورخہ 13-10-2021 جاریہ صاحب موصوف
بالا دیا گیا تھا۔ جس کے جواب میں سائل نے مفصل جواب اندر معیاد اکوٹری آفیسر کے ساتھ جمع کیا ہے۔

اندرین بارہ ایک مرتبہ پھر سائل کو فائنل شوکار نوٹس نمبر مندرجہ بالا دیا گیا۔ سابقہ جواب کے مطابق مورخہ 3-10-2021 کو صبح 06:10 بجے سے 11:50 بجے ہمراہ انور کمال IHC، 12:00 بجے رات تک ہمراہ ہاشم خان IHC کے ساتھ موبائل گت پر رہا۔ اندرین سلسلہ
مطابق ریکارڈ روز نامہ چوکی سٹی پیش کردہ نقل عدالت میری بے گناہی کے لئے ٹھوس ثبوت ہیں۔ مجھ پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔
نوید نواز طریم سابقہ PSI کے جرم کو چھپانے اور اندازاً بہولیت کے بارے سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی میرے عہدہ کی اتنی حیثیت ہے۔

عاجزہ! سائل کو نا کردہ جرم پر ہراساں، پریشان کئے بغیر فائنل شوکار نوٹس اکوٹری فائل کیا جائے۔ رحم کا خواہنا ہوں۔

نوازش ماتحت پروری ہوگی۔

مورخہ 12-11-2021

سائل معطل کا ٹیلی ڈلی انڈ نمبر 568 بتیجہ پولیس لائن کی۔

Amir


G

17

Bannu

7

OFFICE OF THE DISTRICT POLICE

OFFICER LAKKI MARWAT

ORDER

My this order will dispose off the departmental enquiry proceedings against Constable Wali Ullah No. 568 while posted at PP City Lakki was found to indulge in the following omission as detail below:-

1. That on even of full day he followed PASI Naveed Nawaz to the crime scene and now you hiding facts which show his connivance with the accused. Thus this speaks deviant and gross misconduct on his part.
2. He was issued Show Cause Notice to this effect. His reply to the Show Cause Notice was perused and was found un-plausible. He was issued Final Show Cause Notice and the reply thereof was also found un-satisfactory.
3. Therefore, **I Shahzada Umar Abas Baber PSP**, District Police Officer Lakki Marwat exercise of the power vested to me under KPK Police Rules, 1975 hereby impose upon him major punishment of "Dismissal from Service" with immediate effect. He is directed to deposit all the Govt. articles allotted to him to the concerned branches.

OB No. 210

Dated 18/04/2022

Sd/-

(Shahzada Umar Abbas Babar) PSP
District Police Officer,
Lakki Marwat

No. 7456-59 / Dated Lakki Marwat the

18/05/2022

Copy of above is submitted for favour of information to:-

1. The Regional Police Officer, Bannu Region, Bannu.
2. EC. PO. OHC & Lines Officer for necessary action.

Arif




9 17
OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER
LAKKI MARWAT
PH: 0997-376246 Fax: 0997-376244
E-mail: dpo@lki167.com

ORDER

My this order will dispose off the departmental enquiry proceedings against Constable Wali Ullah No.568 while posted at PT City Lakki was found to indulge in the following omission/commission as detail below:-

1. "That on the event of full day he followed PASI Naveed Nawaz in the crime scene and now you hiding facts which show his connivance with the accused. Thus this speaks deviant and gross misconduct on his part.

2. He was issued show cause notice to this effect. His reply to the show cause notice was perused and was found un-plausible. He was issued final show cause notice and the reply thereof was also found un-satisfactory.

3. Therefore, I Shahzada Umar Ahsan Bahar PSP, District Police Officer, Lakki Marwat exercise of the power vested in me under KPK Police Rules-1975, hereby impose upon him major punishment of "Dismissal from service" with immediate effect. He is directed to deposit all the Govt. articles allotted to him to the concerned branches.

OB No. 210

Dated: 18/04/2022.

(Shahzada Umar Ahsan Bahar) PSP
District Police Officer
Lakki Marwat

No. 74859/1 Dated Lakki Marwat the:

28/5/2022.

- Copy of above is submitted for favour of information to:-
1. The Regional Police Officer, Bannu Region, Bannu.
 2. EC, PO, OHC & Lines Officer for necessary action.

Ahsan Bahar

H 18

Better copy

1

OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER
LAKKI MARWAT

Ph# 0969-538240, Fax# 0969-538244

ORDER:

My this order will dispose off the departmental enquiry proceedings against Constable Faheem Ullah No. 215 while posted at PP City Lakki Marwat was found to indulge in the following omission/commission as detail below:-

1. "That he is facilitating PO/accused Naveed Nawaz. Thus this speaks deviant and gross misconduct on his part.
2. In this regard, he was charged sheeted and enquiry was marked to DSP/Hqrs: Lakki Marwat for through probe into the allegations. The enquiry officer after conducting proper departmental enquiry submitted finding report stated therein that he officia. concerned physically not took part in the incident, however on the event of full day he went behind the accused PASI Naveed Nawaz in Govt. vehicle which speaks their secret intentions towards the incident and also hide the facts from the Enquiry Officer, hence found guilty of the misconduct. He was served with Final Show Cause Notice to this effect. His reply to the Final Show Cause Notice was perused which was also found un-satisfactory.
3. Therefore, I Shehzada Umar Abbas Babar PSP, District Police Officer Lakki Marwat exercise of the power vested in me under KPK Police Rules-1975 hereby impose upon him minor punishment of "Stoppage of Increment for two (2) years" with immediate effect.

O.B No. 209.

Dated: 18-05-2022.


Sd/-

(SHEHZADA UMAR ABBAS BABAR) PSP
District Police Officer
Lakki Marwat.

No. 7460-63/dated lakki Marwat.

Copy of the above is submitted for favour of information to:-

1. The Regional Police Officer, Bannu region, Bannu.
2. EC, PO, OHC & Lines Officer for necessary action.



خدمت جناب ریجنل پولیس آفیسر صاحب بسوں ریجن بسوں

عنوان:- درخواست دربارے بحالی سروس، سٹیشن نمبر 59-7456 مورخہ 18-5-2022 مجاریہ

جناب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب گلی مروت

جناب عالی

گزارش ہے کہ سائل گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ

- 1- من سائل بحیثیت ڈرائیور کٹھنلن جو کی سی گلی میں تعینات ہوں۔
- 2- روزہ تو سائل کا 06:10 بجے سے سہراہ انور کمال خان IHC ڈیگر نفری پولیس سرکاری گاڑی میں موبائیل گشت مقرر تھی۔ جو بحوالہ مذکورہ روزنامہ 20 روزہ روز برائے گشت سرکاری موبائیل گاڑی کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے روانہ ہوا۔
- 3- من سائل سہراہ ڈیگر نفری پولیس حسب معمول بحوالہ مذکورہ روزنامہ 5-10-2021 03:50 بجے دن گشت سے واپس آیا۔
- 4- بحوالہ مذکورہ 6 روزنامہ 03-10-2021 سہراہ ہاشم خان IHC سرکاری موبائیل گاڑی میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے روانہ ہوا۔
- 5- دریں اثناء نوید نواز خان PASI پھارج جو کی ہڈا پرائیونٹ گاڑی میں سہراہ نفری پولیس گشت سے واپس آیا۔ من سائل جو کی کے باہر ڈرائیونگ سٹین پر موجود تھا کہ نوید نواز خان PASI صاحب اپنی پرائیونٹ گاڑی میں توڑی درپے کے بعد روانہ ہوا۔
- 6- من سائل سہراہ ہاشم خان IHC نفری پولیس گشت کی جگہ کے لیے روانہ ہوئے۔
- 7- نوید نواز خان PASI صاحب نے سٹین توڑی درپے خود ڈرائیونگ میں سروس کیا ہے۔ جو کی شہر سے 4/5 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔
- 8- جناب DPO صاحب گلی مروت نے من سائل کو پھارج سٹین الزامات PASI On the Event full day Followed صاحب گلی مروت کے تحت جاری فرمایا اور DSP/HQ گلی مروت کو انکو ایئری ایفیسر مقرر کیا۔
- 9- من سائل نے پھارج سٹین کا مفصل جوابت گزارا اور انکو ایئری ایفیسر نے من سائل کا کراس بیان قلمبند کیا۔
- 10- انکو ایئری ایفیسر صاحب نے من سائل کے خلاف بیٹوں شواہد کے تحت الزامات ثابت نہ کر سکا۔ اور فائنل رپورٹ بحمدت جناب DPO صاحب گلی مروت منظور فرمایا۔
- 11- جناب DPO صاحب نے من سائل کو فائنل شواہد نوٹس جاری فرمایا۔ سائل نے شواہد نوٹس کا مفصل جواب تحریری طور پر عرض کیا۔
- 12- جناب DPO صاحب نے آرڈر DISMISSAL FROM SERVICE جاری فرمایا۔ بوجہ اس کے سائل کے خلاف کوئی شہادت دستیاب نہ ہوئی۔

لہذا سائل خود بابت گزارش ہے کہ سائل کے ملازمت پر بحالی اور حکم جناب DPO صاحب گلی مروت کے سٹیشن اور کالعدم کرنے کے احکامات

صادر فرمائیں۔

عین نوازش ہوگی۔

العارض

سابقہ ڈرائیور کٹھنلن ولی اللہ 568 متحفظہ جو کی سی گلی (حال برخواست شدہ)

APR 2022

23-05-2022

J 20

From: The Regional Police Officer,
Bannu-Region; Bannu

To: The Addl. S.P. Bannu.

No. 618/PA, dated Bannu the 20/10/2022

Subject: ORDERLY ROOM - REINQUIRY IN CASE FIR NO.1329/2021 DATED
03.10.2021 U/S 302/34 PPC P.S LAKKI.

Memo:

On 16th June 2022, during Orderly Room the police officials who have been awarded punished by DPO-Lakki appeared before the Regional Police Chief, Bannu. Their appeals and findings of enquiry conducted by DSP/HQ, Lakki were perused and recorded the following remarks:-


Add: SP/Bannu.


"Plz re-enquire into it and find the actual role of these officers in incident."

- i. Muhammad Usman LHC No.238
- ii. Rafeeq Head HC No.704
- iii. Faheem Ullah FC No.215
- iv. Wali Ullah FC No.568
- v. Abdul Bari FC No.245
- vi. Zia Ullah FC No.832

I am further directed to enclose herewith a copy of finding of enquiry previously conducted by DSP/HQ, Lakki and a complaint moved by Syed Ibrar Hussain Shin on the subject for perusal, please.

Encl: As above. (15 sheets)

Arabs



P.A. to 20/10
Regional Police Officer,
Bannu Region,
Bannu.

K 21

BETTER COPY

Phone No: 0928-9270027

Fax No: 0928-9270045

OFFICE OF THE
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE,
BANNU

No.213/ASP

Dated 29/07/2022

To: The Regional Police Officer,
Bannu Region, Bannu.

Subject: ORDERLY ROOM-REINQUIRY IN CASE FIR NO.139/2021 DATED
03.10.2021 U/S 302/34 PPC PS LAKKI.

Memo: Kindly refer to RPO Bannu letter No. 618/PA, dated 20.06.2022, on
the subject noted above.

Respected Sir,

As per your kind order, the undersigned re-enquired in case FIR No
1329/2021, dated 03.10.2021, registered u/s 302/34.PPC in PS Lakki. The detail
of enquiry is furnished as under: -

PROCEEDINGS:

The undersigned thoroughly studied all the documents pertaining to the
subject case including the case file FIR No. 1329/2021 of PS Lakki, all the papers of
previous enquiries charge-sheets, orders of departmental punishments etc. The PS
Lakki and PP city (PS Lakki) record was also perused. All the six accused officials
were summoned, heard in person and their statements were got recorded. after
putting some questions on them. Similarly, I.O of the case SI Munawar Khan was also
summoned along with case file. He was also heard in detail and his statement was
also obtained. I also went through the contents of complaint moved by one Syed Ibrar
Hussain Shah to Worthy RPO, Bannu. Copies of all the relevant documents have been
placed on the enquiry file in hand.

CONCLUSION:

During the course of re-enquiry, all the six accused police officials
have not been found guilty of the charges levelled against them. Neither any one of
the accused was present on the spot/place of occurrence nor facilitated P.O/accused
Naveed Nawaz. Likewise, neither any one of the accused has been charged for the
offence by the complainant of FIR nor concealed the facts from enquiry officers. The
movement of police mobile from PP City, soon after the departure of accused
Naveed Nawaz from the PP, cannot incriminate the under re-enquiry accused police
officials with the incident of case FIR No. 1329/2021, PS Lakki. Because the
movement of police mobile was for routine petrol and not towards the place of
occurrence. As per statement of the I.O no involvement of the under re-enquiry police

ACD no


officials has been found in case FIR No.1329 or in the murder of deceased Aalameen Shah. Complete Challan has already been submitted in the case against two accused only (1) PASI Naveed Nawaz and (2) his brother Umer Gul. Had any one of the under re-inquiry accused police officials been involved in the case he would have been charged/implicated in the instant case.

Hence, it is concluded that murder of Aalameen Shah is the personal issue of PASI Naveed Nawaz and his brother Umer Gul and not the issue of under re-enquiry police officials as none of them had any enmity or personal grudges with deceased party.

RECOMMENDATIONS:

Keeping the above facts and figures in view, all the under re-enquiry 06 police officials are recommended to be exonerated from the charges leveled against them.

Submitted please.

Sd/-
Additional Superintendent of Police,
Bannu

Amir


h 23

BEFORE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

S.A No. _____ / 2022

Wali Ullah S/O Muhammad Khan,
R/o Nawar Khel, Lakki Marwat,
EX- Driver Constable No. 568,
Police Post City, Police Station City,
Lakki Marwat

Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Diry No. 1333

Dated 19-9-2022

Appellant

Versus

1. District Police Officer,
Lakki Marwat.

2. Regional Police Officer,
Bannu Region, Bannu.

Respondents

⊕<=>⊕<=>⊕<=>⊕<=>⊕

APPEAL U/S 4 OF SERVICE TRIBUNAL ACT, 1974
AGAINST OB NO. 210, DATED 18-05-2022 OF R.
NO. 01, WHEREBY APPELLANT WAS DISMISSED
FROM SERVICE AND REPRESENTATION OF
APPELLANT WAS NOT HONORED TILL DATE:

Filed to-day

19/9/2022

Respectfully Sheweth:

⊕<=>⊕<=>⊕<=>⊕<=>⊕

1. That appellant was appointed as Driver Constable on 30-05-2007 and served the department to the best of his ability and to the entire satisfaction of the superiors.
2. That on 03-10-2021, FIR No. 1327, Police Station Lakki Marwat u/s 302/34 PPC was registered against PASI, Naveed Nawaz for murder of Aleemn Shah. (Copy as annex "A")
3. That on 13-10-2021, appellant was served with Show Cause Notice on the allegation that:-

Handwritten signature

- I. That on the event of full day you followed Naveed Nawaz to the crime scene and now you are hiding facts which shows your connivance with the accused.
- II. This all speaks gross misconduct on his part and liable to be punished under the Police Rules. (Copy as annex "B")
4. That on 14-10-2021, appellant replied to the Show Cause Notice and denied the allegations. (Copy as annex "C")
5. That enquiry into the matter was initiated against appellant but the same was not conducted as per the mandate of law because no statement of any witness(s) was recorded in presence of appellant nor he was afforded opportunity of cross examination what to speak of self defense. No punishment for imposition upon him was suggested what to speak of major punishment of dismissal from service. (Copy as annex "D")
6. That the authority was not satisfied with the aforesaid enquiry, so on 18-10-2021, subsequent enquiry was initiated not per the mandate of law and in this enquiry too, no punishment was ever suggested for imposition of appellant. (Copy as annex "E")
7. That on 11-11-2021, appellant was served with Final Show Cause Notice, without supply of enquiry proceeding to appellant which was also replied on 12-11-2021 and denied the allegations. (Copy as annex "F" & "G")
8. That on 18-05-2022, major punishment of dismissal from service was imposed upon appellant without taking into consideration the facts and circumstances of the case by R. No. 01. (Copy as annex "H")
9. That on 18-05-2022, Co-Employee, Fahim Ullah having same role and conduct in the matter was exonerated from the charges, despite the fact that he was equally held responsible in the matter was given minor punishment of stoppage of increment. (Copy as annex "I")

Aus


10. That on 23-05-2022, appellant submitted representation before R. No. 02 for reinstatement in service with all back benefits which met dead response till date. (Copy as annex "J")

11. That on the departmental appeal, R. No. 02 passed order for re-enquiry in the criminal case with remarks:-

"Please re-enquire into it and find the actual role of the officers in incident vide letter dated 20-06-2022". (Copy as annex "K")

Hence this appeal, Inter Alia, on the following grounds;

GR OUNDS

- a. That from the FIR dated 03-10-2022, it is very much clear that Naveed Nawaz apprehended one Almeen Shah with pistol and arrested him at the spot. One Johar Muhammad son of Dilawar Shah posing himself to be the leader of PTI of the locality, made hot words with the said PASI for arresting the said culprits.
- b. That the said deceased whirled message on Facebook ID against the said PASI that he is harassing handsome people. The said PASI went to village Dalo Khel and killed the said Almeen Shah at the same time, appellant was at police post, Lakki Marwat.
- c. That appellant never facilitated the said PASI in the commission of offence and it was his own act, if any.
- d. That charges leveled against appellant has no nexus with the same as he never facilitated the said matter.
- e. That the matter was not dealt with as per the mandate of law because neither any statement of any witness(s) was recorded in presence of appellant nor he was afforded opportunity of cross-examination.
- f. That appellant was unaware as to whether the said PASI is going for checking to Hospital or for going to other purpose.

Aud
3

- g. That double enquiries were conducted in the matter but no punishment was ever suggested by the Inquiry Officer to impose the same upon appellant, what to speak of major punishment of dismissal from service.
- h. That the authorities never dealt with the matter as per the record and circumstances and for no obvious reason, appellant was implicated in the same.
- i. That in similar circumstances, constable Fahim Ullah was exonerated from the charges by R. No 01 at the recommendation of Political vendetta and appellant was awarded with major punishment of dismissal from service.
- j. That neither original nor appellate order was per the mandate of law, so are liable to set aside. The same are based on malafide and discrimination.

It is, therefore, most humbly prayed that on acceptance of the appeal, order dated 18-05-2022 of the R. No. 01 be set aside and appellant be reinstated in service with all consequential benefits.

Wah

Appellant;

Through

Saadullah Khan Marwat
Saadullah Khan Marwat

Arbab Salful Kamal
Arbab Salful Kamal

Amjad Nawaz
Amjad Nawaz
Advocates

Dated: 19-09-2022

Arbab
[Signature]

for which was perused. On 16.06.2022 the appellants were heard in orderly room and the papers were marked to Addl: SP Bannu vide this office Memo: No.618/PA dated 20/06/2022 with the direction "plz re-enquire into it and find the actual role of these officers in incident". The Enquiry Officer (E.O) conducted proper departmental enquiry and came to the conclusion that all the six accused police officials have not been found guilty of the charges leveled against them. He submitted his findings vide Memo: No.213/ASP dated 29/07/2022 quoted therein that neither any one of the accuseds was present on the spot/place of occurrence nor facilitated P.O/accused Naveed Nawaz. Likewise, neither any of the accuseds has been charged for the offence by the complainant of FIR nor concealed the facts from enquiry officers. The movement of police mobile from PP City Lakki, soon after the departure of accused Naveed Nawaz from the PP, cannot incriminate the under re-enquiry accused police officials with the incident of case FIR No.1329/2021, PS Lakki. Because the movement of police mobile was for routine petrol and not towards the place of occurrence. As per statement of the I.O no involvement of the under re-enquiry police officials has been found in case FIR No.1329 or in the murder of deceased Aalmeen Shah. Complete Challan has already been submitted in the case against two accused viz (1) PASI Naveed Nawaz and (2) his brother Umer Gul. Had any one of the under re-enquiry accused police officials been involved in the case he would have been charged/implicated in the instant case.

Therefore, I, Syed Ashfaq Anwar, Regional Police Officer, Bannu Region Bannu in exercise of the powers vested in me under Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975 (amended in 2014) hereby set aside the orders of DPO Lakki Marwat quoted above. The appeals of mentioned officials in the cited joint enquiry are hereby accepted and they are reinstated into service with immediate effect. Moreover, their periods of dismissal / out of duty in the instant case are treated as leave without pay.

ORDER ANNOUNCED
 OB No. 384
 Dated: 30/12/2022.

No. 5032 /EC, dated Bannu the 30/12/2022
 Cc:

DPO-Lakki Marwat for information and necessary action w/r to his officer letters No. quoted above along with complete enquiry files and Service Rolls of above named officials for record in your office which may be acknowledged, please.

Regional Police Officer,
 Bannu Region,
 Bannu

Handwritten signature
 33

Regional Police Officer,
 Bannu Region,
 Bannu

N

A.No. 1431/2022 29
Wasiullah vs Gatt



12.01.2023

Mr. Arbab Saiful Kamal, Advocate for the appellant present.

Mr. Asif Masood Ali Shah, Deputy District Attorney for the respondents present.

02. Learned counsel for the appellant submitted office order OB No. 384 dated 30.12.2022 whereby the appellant has been reinstated into service with immediate effect and the period of dismissal from service treated as leave without pay. In this respect he also submitted an application for withdrawal of the instant service appeal with the permission to file a fresh. Application is allowed subject to all just and legal objections. Consign.

03. Pronounced in open court at Peshawar and given under my hand and seal of the Tribunal this 12th January, 2023.

(Mian Muhammad)
Member (E)

Certified to be true copy

EM
Khyber P.
Service Tribunal
Peshawar

Date of Presentation of Application 20/1/23
 Number of Pages 1/1
 Copies 5/-
 Deposit 3/-
 Total 18/-
 Date 20-01-23
 Date of Delivery of Copy 20-01-23

بعد الت چاپ سروس ٹریبونل صوبہ سندھ پشاور

متواضع
ولی اللہ
نام
مقام
کولہسی
دعویٰ
اپیل

باعضرت محترمہ ایٹک

مقررہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی وکل کاروائی متعلقہ آراء مقام پشاور
کیسٹ سید احمد خان سرور سے ایڈوکیٹ ہانی کورٹ کو وکیل مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب
موصوف کو مقدمہ کی وکل کاروائی کا کابل اختیار ہو گا نیز وکیل صاحب کو کرنے واضح نامہ و تقریر ثالث و فیصلہ برتاف
یعنی جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور بعد از وکری کرنے ابراہ اور دعویٰ چیک و روپیہ اور دعویٰ دعویٰ اور درخواست
پر قسم کی تقدیر اور اس پر مقررہ خط کرنے کا اختیار ہو گا نیز بعد از عدم پیروی یا ڈگری کیسٹ فیہ اپیل کی برآمدگی
اور مستحقین نیز دائر کرنے اپیل نگران و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہو گا اور بعد از ضرورت مقدمہ منکر
کے کل یا جزوی کاروائی کے واسطے اور وکیل یا مفاد قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنی بجائے تفویض اختیار ہو گا
اور اس پر مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مندرجہ بالا اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پر واضح منظور
قبول ہو گا و دوران مقدمہ میں جو شرحہ و ترجمان التوا مقدمہ کے سبب ہو گا اس کے مستحق وکیل صاحب
موصوف ہوں گے نیز بظاہر ضمیمہ کی وصولی کرنے کا بھی اختیار ہو گا اگر کوئی تاریخ پیشی مقام رسیدہ
پر ہو یا بدست باہر ہو تو وکیل صاحب پابند تہ ہوں گے کہ پیروی مذکور کریں۔
لہذا وکالت نامہ دیکھ دیا کہ سند ہے۔

25-01-23. رقم

القید القید القید

11
ارباب سینگ اکمال
ایڈوکیٹ

3
سید الشہد خان مراد
ایڈوکیٹ

wahi

محمد نواز
ایڈوکیٹ